

سُورَةُ الْيَسْرِ مَكِّيَّةٌ وَثَلَاثٌ وَشِئَانُ آيَاتِهَا وَخَمْسٌ رُكُوعَاتٌ

سورہ یس مکہ میں نازل ہوئی اس میں تراسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

یَسَّ ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲ اِنَّکَ لَیْسَ

حکمت والے قرآن کی قسم بے شک

الْمُرْسَلِیْنَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴

تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا

عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو

اَنْذِرَ اَبَآءَهُمْ فَاَمُّ عُقُلُوْنَ ۶ لَقَدْ حَقَّ

ڈرناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرانے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں

الْقَوْلُ عَلٰی کَثْرَتِهِمْ فَاَمُّ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷

اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَاِیُّهَا

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیتے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں



الذُّقَانِ فَهُمْ مُّقْتَدِحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ

انک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھاتے رہ گئے اور ہم نے اُن کے

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

آگے دیوار بنا دی اور اُن کے پیچھے ایک دیوار اور

فَاعْشَيْنَاهُمْ فَأَعْمَوْا أَيْبُورُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ

انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا اور انہیں

عَلَيْهِمْ أَعْيُنُهُمْ أَغْرَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان

يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

لانے کے نہیں تم تو اسی کو ڈر سنا تے ہو جو نصیحت پر چلے

وَحَشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَيَشِرُهُ بِغُفْرَةٍ

اور رحمن سے بے دیکھے ڈرے تو اُسے بخشش اور عزت کے

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ

ثواب کی بشارت دو بیشک ہم مردوں کو جلاتیں گے اور

نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلٌّ

ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور



شَيْءٌ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝۱۲ وَأَضْرِبْ

ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے

لَهُمْ مَثَلًا لِّأَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا

نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس

الرُّسُلُونَ ۝۱۳ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

فرتادے آتے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا

پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب کے کہا کہ

إِلَيْكُمْ فُرْسُلُونَ ۝۱۴ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

بیشک تم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے

مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ

آدمی اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝۱۵ قَالُوا سُبْحَانَ

تم زے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب

يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝۱۶ وَمَا

جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے



عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٤﴾ قَالُوا إِنَّا

زمرہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا بولے ہم تمہیں

تَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْلِن لَمْ تَنْتَهُوْا نَرْجَمَنَّكُمْ

منحوس سمجھتے ہیں بیشک اگر تم باز نہ آتے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار

وَلَيَسِّنَنَّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ إِلَيْهِمْ ﴿١٥﴾ قَالُوا

کریں گے اور بیشک ہمارے ہاتھوں تم پر ڈکھ کی مار پڑے گی انہوں نے

طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ لَمَّا تَكْفُرُونَ

فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھاتے گئے بلکہ تم حد

قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٦﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا

سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے

الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ

سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم

اتَّبِعُوا اللَّهَ رُسُلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا

بھیجے ہوؤں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو

يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا ﴿٢١﴾

تم سے کچھ نیگ نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں



وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ

اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے پیدا کیا اور اسی کی

تَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾ أَلَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں

أَنْ يُّرَدَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي

کہ اگر رحمن میرا کچھ بُرا چاہے تو ان کی سفارش میرے

شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي

کچھ کام نہ آتے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے بے شک

إِذَا الْفَيْضُ ضَلَّ مِيزِينَ ﴿٢٤﴾ إِنِّي أَمِنْتُ

جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں بے شک میں تمہارے

بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

رب پر ایمان لایا تو میری سنو اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو

قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا

کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی

عَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُومِينَ ﴿٢٧﴾

میں نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا



وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے

مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں کوئی لشکر

مُنزِلِينَ ۲۸ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ

وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خِدَاوُنَ ۲۹ يُحْسِرُونَ

تھی جیھی وہ بچھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہاتے

عَلَى الْعِبَادِ ۳۰ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ

افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۳۱ أَلَمْ يَرَوْا

تو اُس سے مٹھا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ

دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی شکستیں ہلاک فرمائیں

أَنكُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۳۲ وَإِنْ كُلُّ

کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں



لَسَّاجِدِيَّةٌ لِّدِينِنَا مُحَضَّرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ ﴿٣١﴾

سب کے سب ہمارے حضور حاضر لاتے جائیں گے اور ان کے

لَهُمُ الْأَرْضُ الْبَيْتَةُ الْحَيَّةُ وَأَخْرَجْنَا

یہ ایک نشانی مڑوہ زمین ہے ہم نے اُسے زندہ کیا اور پھر

مِنْهَا حَبًّا فِيهَا يَا كَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا

اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے

فِيهَا جَدَّتْ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَ

اس میں باغ بناتے کھجوروں اور انگوروں کے اور

وَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ

ہم نے اس میں سے کچھ چشمے بہاتے کہ اس کے پھلوں

شَرَّهُ وَمَا عَمِلْتُمْ أَيُّدِيهِمْ أَفَلَا

میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بناتے نہیں تو کیا

يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَابِ

حق نہ مانیں گے پاکی ہے اُسے جس نے سب جوڑے بناتے ان

كُلِّهَا مَا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

بی چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں



وَمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِيَّاهُمْ الَّيْلُ ﴿٣٧﴾

سے جن کی انہیں خبر نہیں اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے

نَسُخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِيَّاهُمْ مُّظْلِمُونَ ﴿٣٨﴾

ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں ہیں

وَالشُّسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے یہ حکم ہے

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٩﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ

زبردست علم والے کا اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں

حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٤٠﴾ لَا الشُّسُ

یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں

يَتَّبِعِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ

پہنپتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤١﴾

سبقت لے جاتے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے

وَإِيَّاهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ

اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے



الْمُسْحُونَ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا

بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر

يُرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ

سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو

لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ

سہننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور

مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا

ایک وقت تک برتنے دینا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو

مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید

تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ

پر کہ تم پر نہ ہو منہ پھیر لیتے ہیں اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی

آيَةٍ رَّبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَ

نشانی ان کے پاس آتی ہے تو ان سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں اور

إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالِ

جب ان سے فرمایا جاتے اللہ کے دیتے ہیں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو



الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّيْنِ اٰمَنُوا اَنْطَعَمَ مَنْ

کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اُسے کھلائیں جسے

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ اَطْحٰهٗ اِنَّ اَنْتُمْ اِلٰى فِي ضَلٰلٍ

اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی

مُّبِيْنٌ ۚ وَيَقُولُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ

مگر ابھی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صِيْحَةً

تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ

وَ اِحْدَاةٌ تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۚ فَلَا

کی کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ

يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اٰهْلِهِمْ

وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پہنچ

يَرْجِعُوْنَ ۚ وَ يَفْخَرُوْنَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنْ

کر جائیں اور پھونز کا جائے گا صور جبھی وہ

الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهٖمْ يَنْسِلُوْنَ ۚ قَالُوْا

قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے



يُؤْيَلِنَا مَنْ يَعْتَنَانَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سَكَنَةً هَذَا مَا

ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا یہ ہے وہ

وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جیسی وہ سب کے

جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا

سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی

تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْرُونَ إِلَّا مَا

جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلا نہ ملے گا مگر

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

اپنے کئے کا بے شک جنت والے آج

الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ

دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں

فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَّكِعُونَ ﴿٥٦﴾

سایوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگاتے



لَمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْهَمُّ مَائِدَعُونَ ﴿٥٤﴾

ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٥﴾ وَأَمْتَارُوا

ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا اور آج الگ

الْيَوْمَ أَلِيمًا الدُّجْرُمُونَ ﴿٥٦﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ

پھٹ جاؤ اے مجرمو! اے اولاد آدم کیا

إِلَيْكُمْ يَدِي أَدْرَأَنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٧﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي

بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ

یہ سیدھی راہ ہے اور بیشک اس نے تم میں سے

جِبْرًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا



إِصْلُوحَهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٣﴾

آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

آج ہم اُن کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ

أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی

يَكْسِبُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے

فَأَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنِّي يُبْصِرُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ

پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا اور اگر

نَشَاءُ لَسَخَّرْنَاكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا

ہم چاہتے تو اُن کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے

اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٦﴾ وَمَنْ

نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے اور جسے

تَعْبُرُهُ نَزَّتْ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

ہم بڑی عمر کریں اُسے پیدائش میں اتنا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں



وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ

اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو

إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ

نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اُسے ڈراتے ہو

كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ

کیا انھوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوتے چوپائے

أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ﴿٥١﴾ وَ

ان کے لیے پیدا کئے تو یہ ان کے مالک ہیں اور

ذٰلِكَ هَالِكًا لَهُمْ فِيمَنْ هَارَوْكُمْ بِهٰمْ وَمِنْهَا

انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی

يَأْكُلُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمِنْهَا

کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے

أَقْلَامٍ يُشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ

کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا



اللَّهُ إِلَهٌ لَّعَلَّكُمْ يَتَصَرَّوْنَ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ

ٹھہرایے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿٤٥﴾

کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے

فَلَا يَخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَ

تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور

مَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اُسے پانی کی

مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤٧﴾ وَ

بوند سے بنایا جیسی وہ صریح جھگڑالو ہے اور

ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ

ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون

يُنحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٤٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا

ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ

زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اُسے ہر پیدائش کا



عَلَيْمٌ ۙ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ

علم ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پڑ میں سے آگ

الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ۝۸۰

پیدا کی جھی تم اس سے سلگاتے ہو

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے

يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَبَلَىٰ ۚ وَ

ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی

هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝۸۱ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب

شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۸۲

کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرماتے ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے

فَسُبْحٰنَ الَّذِي يَبْدِءُ مَلَكُوتَهُ كُلِّ

تو پاک ہے اُسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ

شَيْءٍ ۙ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۸۳

ہے اور اسی کی طرف پھرے جاؤ گے